




Form- A

FORM OF ORDER SHEET

Court of _____

Case No. 722/2015


S.No.	Date of order proceedings	Order or other proceedings with signature of judge or Magistrate
1	2	
1	26/06/2015	<p>The present appellant initially went in Writ Petition before the Hon'ble Peshawar High Court Darul Qaza Bench and the Hon'ble High Court vide its order dated 19.06.2015 while treating the Writ Petition into an appeal and has sent the same to this Tribunal for decision in accordance with law. The same may be entered in the Institution register and put up to the Worthy Chairman for proper order please.</p> <p style="text-align: right;"> REGISTRAR</p>
2-	30-6-15	<p>This case is entrusted to S. Bench for preliminary hearing to be put up there on <u>02-07-2015</u></p> <p style="text-align: right;"> CHAIRMAN</p>
3	02.07.2015	<p>None present for appellant. The instant appeal has been received from the august Peshawar High Court, Mingora Bench (Darul Qaza Swat), the same is to be heard at Camp Court Swat on 3.8.2015. Notice to appellant and his counsel be issued for the date fixed.</p> <p style="text-align: right;"> Chairman</p>

4. 3.8.2015

None present for appellant despite issuance of notice to appellant and her counsel. The Court time is about to over. Dismissed for want of prosecution. File be consigned to the record.

ANNOUNCED

3.8.2015


CHAIRMAN
Camp Court Swat
03.08.15

announced

3.8.2015



The
PESHAWAR HIGH COURT
Mingora Bench/Dar-ul-Qaza
Swat

All the Communications should be addressed to the Additional Registrar of this Bench.

Office: +92-946- [REDACTED] 885005
Fax: +92-946- [REDACTED] 885004
E-Mail: darulqazaswat2011@gmail.com

No. 2233 / W.P/ Civil Appeal Branch;

Dated: 24/6/15

To

The Chairman,
Service Tribunal
Khyber Pakhtunkhwa
Peshawar.

W.P. No. 576
Diary No. 576
Dated 26/6/15

Subject: W.P NO. 589-M OF 2014

Gul Khoban

...Petitioner(s)

VERSUS

District Education Officer & others

...Respondent(s)

Memo,

Enclosed, find herewith a certified copy of Judgment dated 19.06.2015 passed by the Hon'ble Division Bench of this Court in the above titled case alongwith original file for information & immediate compliance.

"Kindly acknowledge the receipt of this letter alongwith its enclosure"

FM
Additional Registrar
PHC, Mingora Bench/Dar-ul-Qaza,
Swat
24/6/15

Encl:

- Judgment dt: 19.06.2015
- One Original File Containing 55 Pages

JUDGMENT SHEET
IN THE PESHAWAR HIGH COURT,
MINGORA BENCH (DAR-UL-QAZA), SWAT
(Judicial Department)

W.P.589-M of 2014

JUDGMENT

Date of hearing: 19.6.2015.

Petitioner (Gul Khuban) by

Mr. Shams-ul-Hadi Advocate.

Respondent (District Education officer etc) by

Mr. Sabir Shah v Rahim Khan Advocate.



MUSARRAT HILALI, J.- This petition is with a prayer to declare the impugned office order dated 4.12.2014 as illegal, hence the same be set aside with direction to respondent No.1 to restore the office order dated 1.11.2014 and allow the petitioner to continue her service at GGHS Korya, Buner.

2. According to the petitioner, she and respondent No.3 alongwith others were promoted to the post of Secondary School Teachers and were adjusted against the vacant posts at their respective schools vide order dated 1.11.2014. Later on, respondent No.1 vide office order dated 7.11.2014 delegated power of Drawing and Disbursing Officer to the petitioner. Whereafter, respondent No.1 through a corrigendum cancelled his office order

man

dated 1.11.2014 by issuing an office order dated 4.12.2014 vide which the petitioner was transferred and posted to GGCMS Mairagai, which is under challenge in the instant petition.

3. Admittedly, the petitioner is a civil servant and the relief sought regarding cancellation of her transfer order relates to terms and conditions of her service, therefore, under Article 212 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, 1973 this Court has no jurisdiction to entertain this petition, hence the same is dismissed. However, for the sake of justice, this petition is treated as appeal and sent to Service Tribunal, Khyber Pakhtunkhwa for decision according to law and policy on the subject. Office is directed to retain photocopy of each document of the petition for record purpose.

Sd-Syed Afsar Shah-J

Sd. MUGHERIA

Certified to be true copy

Announced:
Dated: 19.6.2015.

20/6/15




Office
18/6

CHECK LIST

1.	Case Title:	مل فہان بنام ڈی ای او پونیر	
2.	Petition is duly signed.	Yes	No
3.	The law under which the Petition preferred has been mentioned.	✓	
4.	Approved file cover is used.	✓	
5.	Affidavit is duly attested and appended.	✓	
6.	Case and Annexures are properly paged and numbered according to index.	✓	
7.	Copies of Annexures are legible and attested. (if not, then better copies duly attested have been annexed).	✓	
8.	Certified copies of all the requisite documents have been filed.	✓	
9.	Certificate specifying that no case on similar grounds was earlier submitted in this court, filed.	✓	
10.	Case within time.	✓	
11.	The value for the purpose of Court fee and jurisdiction has been mentioned in the relevant column.	✓	
12.	Court fee in shape of Stamp Paper is affixed, (For Writ Rs.500/-. For other required).	✓	
13.	Power of Attorney is in proper form.	✓	
14.	Memo of addressed filed.	✓	
15.	List of Book mentioned in the Petition.	✓	
16.	The requisite number of spare copies attached. (Writ Petition-3, Nos Civil Appeal (SB-1, SB-2) Civil Revision (SB-1, SD-2).	✓	
17.	Case (Revision/Appeal/Petition etc) is filed on the prescribed form	✓	
18.	Power of Attorney is attached by Jail Authority (for Jail Prisoners only).	✓	

It is certified that formalities/documentation as required in column 2 to 18 above, have been fulfilled.

Name: Shams-ul-Hadi Advocate

Signature: 
Dated: 12-12-2014


FOR OFFICE USE ONLY

Case No. _____

Case received 12-12-14

Complete in all respect: Yes/No (if No the grounds)

Dated in Court _____

Signature 
(Reader)

Dated 12-12-14

Countersigned: _____
(Deputy Registrar)

Received for AAG
LM
12-12-2014

FILED TODAY

Additional Registrar
12 DEC 2014

**IN THE PESHAWAR HIGH COURT, CIRCUIT BENCH, DARUL
QAZA, AT SWAT.**

W.P. No. 589-m /2014.

Service Appeal No. 722/2015

Gul Khuban SST.....Petitioners

VERSUS

District Education Officer(F) Buner & Others.....Respondents

INDEX

S.No	Description of Documents	Anne	Page
1.	Writ Petition		1- 6
2.	Affidavit		7
3.	Addresses of the parties		8
4.	Copy of office order dated:01.11.2014.	A	9- 11
5.	Copy of Office order dated:07.11.2014.	B	12-
6.	Copy of office order dated:04.12.2014.	C	13-14
7.	Copy of Policy and Seniority List	D	15-26
8.	Court Fee		27
9.	Wakalat Nama		28

Petitioner

Through

Shams-ul-Hadi

Advocate, Peshawar

Office: H/6 near Al-Falah

Mosque, Hayat Abad, Mingora.

Clerk Cell No.0347-4773440.

Dated: 11/12/2014

6563
FILED TODAY

for
Additional Registrar

12 DEC 2014

BEFORE THE PESHAWAR HIGH COURT CERCUIT

BENCH/DARUL-QAZA SWAT.

Service Appeal No. 722/2015

W.P NO. 589-m OF 2014.

Gul Khuban, Secondary School Teacher (SST)

Presently Posted at Government Girls Higher Secondary School
Korya, District Bunir.....Petitioner.

VS

/1. District Education Officer (Female) Buner.

/ 2. The Director Elementary & Secondary Education,

Khyber Pukhton Khwa, Civil Secretariat , Peshawar.

3. Nizakat Begum, SST

Presently posted at GGCMS Mairagai, Buner

4. Govt of Khyber Pakhtunkhwa through Chief Secretary
at Peshawar.Respondents

**WRIT PETITION UNDER ARTICLE 199 OF THE
CONSTITUTION OF ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN 1973**

FILED TODAY

for
A. A. Khan
Additional Registrar

12 DEC 2014

AGAINST THE IMPUGNED OFFICE ORDER NO.8687-13

DATED:04.12.2014.

W. p no 589-m/014

Respectfully Sheweth:

Brief facts of the case are as under:

FACTS:

1. That initially the Respondents/Department promoted the petitioner and Respondent No.3 along with others to the post of Secondary School Teacher (SST) and as such both were posted/adjusted against the vacant posts of SST at the schools, mentioned against their names, vide office order No.8472-79 dated:01.11.2014.(Copy of office order dated:01.11.2014 is annexure-A)
2. That latter on, the respondent No.1 vide office order dated:07.11.2014 delegated powers of Drawing & Disbursing Officer to the petitioner.(Copy of Office order dated:07.11.2014 is annexure-B)

FILED TODAY

Per [Signature]
Additional Registrar

12 DEC 2014

3. That surprisingly and with utmost surprise of the petitioner, the Resp No.1 without caring for the rules and policy, just to accommodate his nears and dears at nearest places/schools, again issued an office order dated:04.12.2014 and through a corrigendum cancelled his office order dated:01.11.2014.(Copy of office order dated:04.12.2014 is annexure-C)
4. That since the petitioner has got no other efficacious adequate remedy available in law but to approach this Hon'ble Court for issuance of appropriate writ inter alia on the following grounds:


GROUND:

- A. Because the petitioner has not been treated in accordance with rules and policy laid down for the purpose and his rights secured and guaranteed under the constitution have been violated.

FILED
Per *Amber*
2
Additional Registrar
02 DEC 2014

- B. Because the issuance of impugned Office order dated:04.12.2014 is in conflict with the earlier office orders and policy laid for the purpose as well hence on one side the petitioner has illegally been transferred where as on the other the Respondents have impaired the honesty which is needed to run the affairs of the department in transparent manner. (Copy of Policy and Seniority List is annexure-D)
- C. Because the department due to political pressure and to accommodate his nears and dears violated the rules and policy which is against the rules and law laid down for the purpose.
- D. That subsequent transfer orders clearly showing the ill intention of the respondents and such like illegal actions and inactions are classical examples of political victimization because the appellant was penalized and transferred contrary to the Transfer /posting policy which is a clear violation of the laws and rules laid down for the purpose.

FILED TODAY

Per 
Additional Registrar

12 DEC 2014

- E. That the petitioner seeks the permission of this august Court to rely on additional grounds at the hearing of this petition.

It is, therefore, humbly prayed that on acceptance of this Writ Petition,

- i) The impugned office order No.8687-13 dated:04/12/2014 may kindly be declare illegal and may also be set aside
- ii) The Resp No.1 may kindly be directed to restore his Office order dated:01.11.2014 and further the petitioner may kindly be allow to continue his services at GGHS Korya, Buner.

OR

Any other remedy may kindly with this august Court deems appropriate may kindly be allow in favors of the petitioners.

INTERIM RELIEF:

By way of interim relief the impugned Office order No.8687-13 dated:04.12.2014 may kindly be suspended, by restoring office

FILED TODAY

Per
Judges
Additional Registrar

12 DEC 2014

order dated:01.11.2014 and the petitioner may kindly be allow to perform her duties at Govt Girls Higher Secondary School Korya, Buner till final decision of the titled writ petition.

Petitioner

Through

Dated: 11/12/2014

Shams-ul-Hadi
Advocate, Peshawar.

CERTIFICATE:

Certified that no such like Writ Petition has earlier been filed on the subject matter before this Hon'ble Court.

ADVOCATE

LAW BOOKS:

1. Constitution of Islamic Republic of Pakistan, 1973.
2. Any Law Book as per need.

ADVOCATE

FILED TODAY

Pf
Additional Registrar

12 DEC 2014

BEFORE THE PESHAWAR HIGH COURT CIRCUIT

BENCH/DARUL QAZA AT SWAT

W.P. No. 589-m/2014


Gul Khuban (SST).....Petitioner

VERSUS


District Education Officer(F) Buner & Others.....Respondents


AFFIDAVIT

I, **Shams ul Hadi Advocate** do hereby solemnly affirm and declare on oath, as per instructions and information conveyed to me by my client, the contents of the accompanying Writ Petition are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed from this Hon'ble Court.


Advocate
DEPONENT

S.No. 2753
Certified that the above was verified and solemn affirmation before me on 12th day of Dec. 2014 by Shamsul Hadi who was identified by Advocate who is personally known to me.


for **Addl: Registrar**
Peshawar High Court
Mingora Bench/Dar-ul-Qaza, Swat.

FILED TODAY

Additional Registrar
12 DEC 2014

BEFORE THE PESHAWAR HIGH COURT CIRCUIT**BENCH/DARUL QAZA AT SWAT**W.P No. 589-m / 2014

Gul Khuban (SST)Petitioner

VERSUS

District Education Officer(F) Bunir & Others.....Respondents

ADDRESSES OF THE PARTIES**PETITIONER:**

Gul Khuban, Secondary School Teacher (SST)

Presently Posted at Government Girls Higher Secondary School
Korya, District Buner.

Cell No.0344-9628217.

NIC: 15101-8462221-0

RESPONDENTS:

1. District Education Officer (Female) Buner.
2. The Director Elementary & Secondary Education, Khyber PukhtonKhwa, Civil Secretariat, Peshawar.
3. Nizakat Begum, SST, Presently posted at GGCMS Mairagai, Buner.
4. Govt of Khyber Pakhtunkhwa through Chief Secretary at Peshawar.

Petitioners

Through

Dated: 11/12/2014


Shams-ul-Hadi
 Advocate, Peshawar.

FILED TODAY


 Additional Registrar

12 DEC 2014

Ameen
A 2

OFFICE OF THE DISTRICT EDUCATION OFFICER (FEMALE) DISTRICT BUNER.



NOTIFICATION:

Consequent upon the recommendation of the Departmental Promotion Committee and in pursuance of the Government of Khyber Pakhtunkhwa Elementary & Secondary Education Notification No. SO(PE)/1-5/SSRC/Meeting/2013/Teaching Cadre dated 24th July 2014, the following SCTs/CTs, SDMs/DMs, SATs/ATs, STTs/TTs, Senior Qaris/Qaris, PSITs/SPSTs/PSTs are hereby promoted to the post of SST (General) noted against each in BPS-16 (Rs10000-800-34000) plus usual allowances as admissible under the rules on the regular basis under the existing policy of the provincial Govt, on the terms and conditions given below with immediate effect and posted on " School Based " as given below:

A. SST (GENERAL)

1. PROMOTED FROM SCT/CT TO THE POST OF SST (GENERAL) BPS-16

S.No	Name of Official	Present Place of Posting	School Where Posted	Remarks
1	BAKHT JAMILA	GGHS HISR	GGHS HISAR	A.V.P
2	GUL KHUBAN	GGHS NAWAGAI	GGHS KORYA	A.V.P
3	MUHSIN ZARI	GGHS NAWAGAI	GGMS KHANANO DHERI	A.V.P
4	SHAUKAT BIBI	GGHS KAWGA	GGHS KAWGA	A.V.P
5	NEZAKAT BEGUM	GGHSS PANJTAR	GGMS NOGRAM	A.V.P
6	MUMLIKAT BEGUM	GGHS SHALBANDI	GGHS SHALBANDAI	A.V.P
7	GULSHAN ARA	GGHS CHINGLAT	GGHS SOWAWAI	A.V.P
8	RUKHSANA BEGUM	GGHS BAZARGAY	GGHS BAZARGAY	A.V.P
9	JEHAN ARA	GGHS TOTALAI	GGHS SOWAWAI	A.V.P
10	MERAJ ZARI	GGHS SHALBANDI	GGMS DEWANA BABA	A.V.P
11	ZAHIDA	GGHSS KALPANI	GGHSS KALPANI	A.V.P
12	NAHEED BEGUM	GGHS BAGRA	GGHS BAGRA	A.V.P
13	KALSOOM BIBI	GGHSS PACHA KALAY	GGHSS PACHA KALAY	A.V.P
14	SALMA BEGUM	GGHS SOWARI	GGHS SOWARI	A.V.P
15	SAIQA KHAN	GGHS TOPAI	GGHS TOPAI	A.V.P
16	NIZAKAT	GGHS KORYA	GGMS MAIRAGAI	A.V.P
17	UMM IKALSOOM	GGHS SHADAM	GGHS SHADAM	A.V.P
18	SAJIDA	GGHS DAGAI	GGHS DAGAI	A.V.P
19	MAHJABEEN ZAHIR	GGHS SOWARI	GGMS ELAI	A.V.P
20	SAEEDA	GGHS BATANAI	GGHS BATANAI	A.V.P

Paid Ameen
05/11/2014

Attested

[Signature]

22	SOHAILA NAZ PARVEEN SHAHEEN	GGHS DAGAI	GGMS GHAZI KOT	A.V.P
23	NASREEN BEGUM	GGHS SURA	GGHS BAZARGAY	A.V.P
24	HAMIDA BEGUM	GGHS BATANAI	GGHS CHEENA	A.V.P
25	TAZKIRAH	GGHS BAGRA	JICA DAGGAR	A.V.P
26	NASREEN BEGUM	GGHSS TOTALAI	GGMS MANGAL THANA	A.V.P

2. PROMOTED FROM SDM/DM TO THE POST OF SST (GENERAL) BPS-16

S.No	Name of Official	Present Place of Posting	School Where Posted	Remarks
1	JANAT BEGUM	GGHS SHALBANDI	GGHS ANGHAPUR	A.V.P

3. PROMOTED FROM SATIAT TO THE POST OF SST (GENERAL) BPS-16

S.No	Name of Official	Present Place of Posting	School Where Posted	Remarks
1	HUMERA BIDI	GGHS KAWGA	GGHS SURA	A.V.P
2	UMME KALSOOM	GGMS SAWAWAI	GGCMS BAMPOKHA	A.V.P

4. PROMOTED FROM STT/TT TO THE POST OF SST (GENERAL) BPS-16

S.No	Name of Official	Present Place of Posting	School Where Posted	Remarks
1	NARGAS	GGMS DAGGAR	GGMS CHANAR	A.V.P
2	ZEBA KHAN	GGMS ANGHAPUR	GGHS ANGHAPUR	A.V.P
3	NAWAYAT BIBI	GGHSS PANJTAI	GGHS JOWAR	A.V.P

5. PROMOTED FROM SQARI/QARI TO THE POST OF SST (GENERAL) BPS-16

S.No	Name of Official	Present Place of Posting	School Where Posted	Remarks
1	NADIA	GGHS KARAPA	GGHS KARAPA	A.V.P
2	BAKHIT RAZA	GGHSS KALPANI	GGMS BAJKATA	A.V.P

6. PROMOTED FROM PSHT/SPST/PST TO THE POST OF SST (GENERAL) BPS-16

S.No	Name of Official	Present Place of Posting	School Where Posted	Remarks
1	HUSSAN ARA	GGPS MASKIPUR	GGMS MAKIRANAI	A.V.P
2	SHAHEEN BEGUM	GGPS WAHID ABAD	GGCMS SURA	A.V.P
3	FATWARANI BEGUM	GGPS NAGRAI	GGHS MATWANI	A.V.P
4	NAJMUL HUDA	GGPS KH, DHERAI	GGMS CHARORAI	A.V.P

Attested

*Row Anees
02/11/2014*

5	ALIA BEGUM	GGPS TOTALI	GGMS GUL BANDAI	A.V.P
6	NAHEED BEGUM	GGPS KAS KOROONA	GGMS TANGORA	A.V.P
7	TAMAL BIBI	GGPS MANJAR	GGMS KINGER GALI	A.V.P
8	RUKHSANA	GGPS KRAPA	GGMS SHANAI NAWAKALAY	A.V.P
9	ROMANIA	GGPS DAGGAR	GCMS HISAR THANGAY	A.V.P
10	AYSHA BIBI	GGPS PAK BANR	GGMS KASS KOROONA	A.V.P
11	SHAMIM AKHTAR	GGCMS SULTAN WAS	GGMS KATKALA	A.V.P
12	NUSRAT BEGUM	GGCMS SULTAN WAS	GCMS SULTANWAS	A.V.P
13	DAVENDER KOR	GGPS KAWGA	GGMS KULYARI	A.V.P
14	RAZIA BEGUM	GGPS QADAR NAGAR	GCMS NARBATAWAL	A.V.P

Terms and Conditions:-

1. They would be on probation for a period of one year extendable for another one year.
2. They will be governed by such rules and regulations as may be issued from time to time by the Govt.
3. Their services can be terminated at any time, in case their performance is found unsatisfactory during probationary period. In case of misconduct, they shall be proceeded under the rules framed from time to time.
4. Charge report should be submitted to all concerned.
5. Their inter-Se-seniority on lower post will remain intact.
6. No TA/DA will be allowed to the appointee for joining their duty.
7. They will give an undertaking to be recorded in their service books to the effect that if any over payment is made to them, in light of this order, will be recovered and if they were wrongly promoted they will be reversed.
8. Their posting will be made on school based, they will have to serve at the place of posting and their service is not transferable to any other station.
9. Before handing over charge, once again their documents may be checked if they have not the required relevant qualification as per rules, they may not be handed over charge of the post.

(RABIA ANEES)
DISTRICT EDUCATION OFFICER(F)
BUNER.

Endst; No. 8472-79 Dated. 01/11/2014.

Copy forwarded for information and necessary action to :-

1. Director Elementary & Secondary Education Khyber Pakhtunkhwa Peshawar with r/t Endst: No.3436-40/File No.2/Promotion SST B-16 dated Peshawar the 28/10/2014.
2. Deputy Commissioner Buner.
3. District Accounts Officer Buner
4. District Monitoring Officer Buner
5. Principals/Head Mistresses concerned.
6. Sub Divisional Education Officer (F) Buner.
7. Officials concerned.
8. Master file.

Rabia Anees 01/11/2014
DISTRICT EDUCATION OFFICER(F)
BUNER.

Attested

OFFICE OF THE DISTRICT EDUCATION OFFICER (FEMALE) BUNER

OFFICE ORDER

The undersigned being competent authority is pleased to make the following officials (H/M & SST's (G)) as Incharge/ Drawing and Disbursing Officers /DDO of their respective schools

All kind of bills/private fund and other account matter will be signed and counter signed by them with immediate effect in the interest of public service, subject to the condition that they will not claim for any benefits of the assigned responsibilities

12

Amir
B

S.NO	Name of Officials	Name Of Schools
1	Mst Altaf Jamaullah	GGHSS Panjtar
2	Mst: Lal Zari	GGHSS Totalai
3	Mst Zahida	GGHSS Kalpani
4	Mst Tayaba (S.S)	GGHSS pachakalay
5	Mst Memoona (H/M)	GGHS Bagra
6	Mst Noor Bahri	GGHS Nawagai
7	Mst Abida	GGHS Hisar
8	Mst: Almas Begum	GGHS Chinglai
9	Mst: Hameeda	GGHS Cheena
10	Mst Gul Khuban	GGHS Korea
11	Mst Shaukat Bibi	GGHS Kowaga
12	Mst Mumlikat Begum	GGHS ShalBandai
13	Mst Gulshan Ara	GGHS Sowawai
14	Mst Nasreen	GGHS Bazargay. (Also DDO of GGHS Jowar)
15	Mst Salma	GGHS Sowari
16	Mst Saiga Khan	GGHS Topai
17	Mst ummi Kalsoom	GGHS Shahdam
18	Mst Sajida	GGHS Dagai
19	Mst Saeeda	GGHS Batanai
20	Mst Parveen shaheen	GGHS Sura
21	Mst Shaheen	GGHS jowar (Only Incharge)
22	Mst Zeba Khan	GGHS Anghapur
23	Mst Nadia	GGHS Karpa

All staff are bound to extend full cooperation for smooth functioning of schools.

DISTRICT EDUCATION OFFICER(F)
BUNER

Endst;No. 852533 Dated 07-11-2014.

Copy of the above is forwarded to the:-

1. District Monitoring Officer District Buner
2. District Account Office Buner
3. P.A to Director ESSEdu Khyber Pakhtunkhwa Peshawar
4. P.A to DDAC Chairman
5. P.A to Deputy Commissioner Buner
6. local office
7. All concerned schools

Per Amir 07/11/2014
DISTRICT EDUCATION OFFICER(F)
BUNER

Attested

(13)

A. Anwar
"C"

OFFICE OF THE DISTRICT EDUCATION OFFICER (FEMALE) DISTRICT BUNER.



CORRIGENDUM:

In partial modification to this office Notification issued vide Endst; No. 8472-79 dated 01/11/2014, the place of posting of the following teachers may be read as noted against their names on the same terms and conditions as mentioned in the original order / notification cited above.

SST (GENERAL)

1. PROMOTED FROM SCT/CT TO THE POST OF SST (GENERAL) BPS-16

S.No	Name of Official	Present Place of Posting	School Where Posted	Remarks
1	NIZAKAT	GGHS KORYA	GGHS KORYA	A.V.P
2	GUL KHUBAN	GGHS NAWAGAI	GGCMS MAIRAGAI	A.V.P
3	JEHAN ARA	GGHS TOTALAI	GGHS NOGRAM	A.V.P

2. PROMOTED FROM PSHT/SPST/PST TO THE POST OF SST (GENERAL) BPS-16

S.No	Name of Official	Present Place of Posting	School Where Posted	Remarks
1	HUSAN ARA	GGPS MASKIPUR	GGHS SHADAM	A.V.P
2	ALIA BEGUM	GGPS TOTALAI	GGHS CHEENA	A.V.P

3. PROMOTED FROM SAT/ATTO THE POST OF SST (GENERAL) BPS-16

S.No	Name of Official	Present Place of Posting	School Where Posted	Remarks
1	UMMI KALSOM	GGHS SAWAWAI	GGHS SAWAWAI	A.V.P

Peria Anes
04/12/14

Attested

Terms and Conditions:-

1. They would be on probation for a period of one year extendable for another one year.
2. They will be governed by such rules and regulations as may be issued from time to time by the Govt.
3. Their services can be terminated at any time, in case their performance is found unsatisfactory during probationary period. In case of misconduct, they shall be proceeded under the rules framed from time to time.
4. Charge report should be submitted to all concerned.
5. Their inter-Se-seniority on lower post will remain intact.
6. No TA/DA will be allowed to the appointee for joining their duty.
7. They will give an undertaking to be recorded in their service books to the effect that if any over payment is made to them, in light of this order, will be recovered and if he is wrongly promoted he will be reversed.
8. Their posting will be made on school based, they will have to serve at the place of posting and their service is not transferable to any other station.
9. Before handing over charge, once again their documents may be checked if they have not the required relevant qualification as per rules, they may not be handed over charge of the post.


(RABIA ANEES)
 DISTRICT EDUCATION OFFICER (F)
 BUNER.

Endst; No. 8687-13 Dated. 4-12-2014

Copy forwarded for information and necessary action to: -


1. Director Elementary & Secondary Education Khyber Pakhtunkhwa Peshawar.
2. Deputy Commissioner Buner.
3. District Accounts Officer Buner
4. District Monitoring Officer Buner
5. Principals/Head Mistresses concerned.
6. Officials concerned.
7. Master file.

Rabia Anees
 04/12/14
 DISTRICT EDUCATION OFFICER (F)
 BUNER

Attested


(15)

Annexure
"D" 3



GOVERNMENT OF KHYBER PAKHTUNKHWA
ELEMENTARY & SECONDARY EDUCATION DEPARTMENT

Peshawar, dated the 24th July, 2014.

NOTIFICATION

No.SO(PE)4-5/SSRC/Meeting/2013/Teaching Cadre:- In pursuance of the provisions contained in sub rule (2) of rule 3 of the Khyber Pakhtunkhwa Civil Servants (Appointment, Promotion and Transfer) Rules, 1989, the Elementary and Secondary Education Department in consultation with the Establishment Department and the Finance Department hereby directs that in this Department's Notifications No.SO(G)S&LD/1-28/2003/Vol-II dated, 09-04-2004, Notification No.SO(G)S&L/1-69/06/Vol-1/DPE/LIB dated, 13-11-2007, and Notification No.SO(PE) 4-5/SSRC/Meeting/2012/Teaching Cadre, dated, 13.11.2012, the following further amendments shall be made, namely:

AMENDMENTS

In the Appendix,-

- (i) Serial No. 1 shall be renumbered as 1B and before Serial No. 1B, as so renumbered, the following new entries shall be inserted in respective columns, namely:

1	2	3	4	5
1.	Subject Specialist (BPS-17)	i. At least second class Master's Degree or four years BS Degree in the relevant subject; and ii. Bachelor of Education or Master of Education (Industrial Art or Business Education) or M.A Education or equivalent qualification from a recognized University.	23 to 35 years	(a) Fifty per cent by promotion, on the basis of seniority-cum-fitness, for the relevant subject from amongst the Secondary School Teachers (BPS-16), with at least five years service as such and having qualification mentioned in column No. 3. Note: If no suitable candidate is available in the relevant subject the post falling in their promotion quota shall be filled by initial


(1)

Attested

(16)

				recruitment; and (b) fifty percent by initial recruitment.
1A	Director Physical Education (BPS-17)	At least second class Master's Degree in Physical Education from a recognized University.	22-35 years	(a) Fifty percent by promotion, on the basis of seniority-cum-fitness, from amongst Senior Physical Education Teachers (BPS-16), with at least five years service as Senior Physical Education Teacher and Physical Education Teacher and having qualification mentioned in column No. 3: Provided that if no suitable person is available from amongst Senior Physical Education Teachers for promotion then the post shall be filled by promotion, on the basis of seniority-cum-fitness, from amongst the Physical Education Teachers, with at least five years service as such and having qualification mentioned in column No. 3; Note:- If no suitable candidate is available in the relevant cadres of the above teachers, the post falling in their promotion quota shall be filled by initial recruitment; and (b) fifty percent by initial recruitment"; and

Attested



(ii) against Serial No. 1B, as so renumbered, for the existing entries, the following shall be substituted, in respective columns, namely:

1	2	3	4	5
"1B.	Secondary School Teacher (BPS-16)	<p>I. At least second class Bachelor Degree's from a recognized University on need basis from the following groups with two subject</p> <p>(a) (Chemistry, Botany or Zoology), Or (b) (Physics, Maths "A" or "B" or Statistics) Or (c) (Humanities and other equivalent groups at degree level with English as compulsory subject;</p> <p>and</p> <p>II. Bachelor of Education or Master of Education (Industrial Art or Business Education) or M.A Education or equivalent qualifications from a recognized University.</p>	21 to 35 years.	<p>1. Seventy Five per cent by promotion, on the basis of seniority-cum-fitness, from the district concerned in the following manner:</p> <p>(a) forty per cent from amongst the Senior Certified Teachers (BPS-16), with at least five years service as Senior Certified Teacher and Certified Teacher and having qualification mentioned in column No.3:</p> <p>Provided that if no suitable candidate is available from amongst Senior Certified Teachers for promotion then the post shall be filled by promotion, on the basis of seniority-cum-fitness, from amongst Certified Teachers, with at least five years service as such and having qualification mentioned in column No. 3;</p> <p>(b) four per cent from amongst the Senior Drawing Masters(BPS-16), with at least five years service as Senior Drawing Masters and Drawing Masters and having qualification mentioned in column No.3:</p>

Attested


--	--	--

Provided that if no suitable candidate is available from amongst Senior Drawing Masters for promotion then the post shall be filled by promotion, on the basis of seniority-cum-fitness, from amongst Drawing Masters with at least five years service as such and having qualification mentioned in column No. 3;

(c) four per cent from amongst the Senior Arabic Teachers(BPS-16), with at least five years service as Senior Arabic Teachers and Arabic Teachers, and having qualification mentioned in column No.3;

Provided that if no suitable candidate is available from amongst Senior Arabic Teachers for promotion then the post shall be filled by promotion, on the basis of seniority-cum-fitness, from Arabic Teachers with at least five years service as such and having qualification mentioned in column No. 3;

(d) four per cent from amongst the Senior Theology Teachers(EPS-16), with at least five years service as Senior Theology Teachers and Theology Teachers and having qualification mentioned in column No.3;

Attested


--	--	--

Provided that if no suitable candidate is available from amongst Senior Theology Teachers for promotion then the post shall be filled by promotion, on the basis of seniority-cum-fitness, from amongst Theology Teachers with at least five years service as such and having qualification mentioned in column No. 3;

(e) three per cent from amongst the Senior Qaris (BPS-16), with at least five years service as Senior Qari and Qari and having qualification mentioned in column No.3:


Provided that if no suitable candidate is available from amongst the Senior Qaris then the post shall be filled by promotion, on the basis of seniority-cum-fitness, from Qaris with at least five years service as such and having qualification mentioned in column No. 3;

(f) twenty per cent from amongst the Primary School Head Teachers (BPS-15), with at least seven years service as Primary School Head Teachers and Senior Primary School Teachers and Primary School Teachers and having qualification mentioned in column No. 3:

(15)

Provided that if no suitable candidate is available from amongst

Attested



--	--


Primary School Head Teachers for promotion then the post shall be filled by promotion, on the basis of seniority-cum-fitness; from amongst Senior Primary School Teachers with at least seven years service as Senior Primary School Teachers and Primary School Teachers and having qualification mentioned in column No.3:

Provided further that if no suitable candidate is available from amongst Senior Primary School Teachers for promotion then the post shall be filled from amongst Primary School Teachers with at least seven years service as such and having qualification mentioned in column No. 3; and

(ii) twenty five percent by initial recruitment.

Note:

- I. If no suitable candidate is available in the relevant cadre of the above teachers, the post falling in their promotion quota shall be filled by initial recruitment.
- II. Posts of General SST and SSTs-1 Science and SST-2 Science shall be filled by promotion or initial recruitment, each on need basis separately."

Attested


(21)

SECRETARY TO GOVERNMENT OF KHYBER PAKHTUNKHWA
ELEMENTARY & SECONDARY EDUCATION DEPARTMENT

Endst : of even No & date:

1. The Secretary to Government of Khyber Pakhtunkhwa, Establishment and Administration Department Peshawar.
2. The Secretary to Government of Khyber Pakhtunkhwa, Finance Department Peshawar.
3. The Secretary to Government of Khyber Pakhtunkhwa, Law Department Peshawar.
4. The Secretary Khyber Pakhtunkhwa, Public Service Commission Peshawar.
5. The Accountant General Khyber Pakhtunkhwa Peshawar.
6. The Director, Elementary and Secondary Education Department Khyber Pakhtunkhwa Peshawar.
7. The Director of Education (FATA) Peshawar.
8. The Director, Curriculum and Teacher Education Khyber Pakhtunkhwa Abbottabad.
9. The Director, (PITE) Khyber Pakhtunkhwa Peshawar.
10. The Director, ESRU Elementary and Secondary Education Department Khyber Pakhtunkhwa Peshawar.
11. Manager Government Printing Press Khyber Pakhtunkhwa Peshawar.
12. The Deputy Director, EMIS (S&SE) Department Khyber Pakhtunkhwa Peshawar.
13. All District Education Officer (M&F) in Khyber Pakhtunkhwa.
14. All District Account Officer in Khyber Pakhtunkhwa.
15. All Agency Education Officer in FATA.
16. All Agency Account Officer in FATA.
17. PS to Governor Khyber Pakhtunkhwa. Peshawar.
18. PS to Chief Minister Khyber Pakhtunkhwa. Peshawar.
19. PS to Chief Secretary Khyber Pakhtunkhwa. Peshawar.
20. PS to Minister E&SE Khyber Pakhtunkhwa. Peshawar.
21. PS to Secretary E&SE Khyber Pakhtunkhwa. Peshawar.
22. Master file

(ZAMIN KILAN MOMAND)
SECTION OFFICER (PRIMARY)

(7)

Attested

(22)

OFFICE OF THE EXECUTIVE DISTRICT OFFICER ELEMENTART AND SECONDARY EDUCATION BUNER
FINAL SENIORITY LIST OF C.T FEMALE TEACHERS 2012

S.N	S.NO	NAME OF SCHOOL	TEACHER NAME	FATHER / HUSBAND NAME	DOMICILE	DESIG:	BPS	ACAD: QUAL:	PROF: QUAL:	B.A DIV	D.O.B	DATE OF 1ST APPT: IN EDUCATION	DATE OF REGULAR APPT: AGAINST THE POST	DATE OF TAKING OVER CHARGE ON THE PRESENT POST	REMARKS
	1	GGHS HISAR	BAKHT JAMILA ✓	MUHAMMAD YOUSAF	BUNER	CT	15	MA	MED	2ND	08/01/1969	01/03/1988	31/12/1996	31/12/1996	
	2	GGHS HISAR ✓	FARMANIA BEGUM ✓	FAZAL MULA	BUNER	CT	15	MA	MED	3RD	14/06/1972	01/05/1992	13/05/1997	13/05/1997	✓
	3	GGHS NAWAGAI	GUL KHUBAN ✓	ABDUR RASHID	BUNER	CT	15	BA	CT	2ND	04/04/1971	04/12/1989	10/02/1998	10/02/1998	
	4	GGMS PACHA KALAY	ZULIKHA BEGUM ✓	FAZAL MAULA	BUNER	CT		BA	BED		04/11/1972	17/09/1990	27/02/1998	27/02/1998	
	5	GGMS AMNAWAR ✓	SHARAFAT-UN-NISA ✓	SYED LAIQ SHAH	BUNER	CT	9	FA	CT	NIL	01/04/1971	10/11/1989	01/03/1998	01/03/1998	
	6	GGHSS KALPANI ✓	SAMINA ✓	DILAWAR KHAN	BUNER	CT	15	MA	BED	3RD	01/12/1972	23/04/1992	01/03/1998	01/03/1998	
	7	GGHS NAWAGAI	MUHSIN ZARI ✓	GUL ZADA	BUNER	CT	15	MA	MED	2ND	07/03/1973	27/04/1992	01/03/1998	01/03/1998	
	8	GGHS KAWGA	SHAIKAT BIBI ✓	MUHAMMAD ZADA	BUNER	CT	15	MA	MED	2ND	06/10/1973	02/11/1992	01/03/1998	01/03/1998	
	9	GGHS TOTALAI	NASIM AKHTAR ✓	MIR HASSAN	BUNER	CT	14	BA	CT	2ND	14/03/1968	12/12/1987	11/05/1999	11/05/1999	
	10	GGMS NOGRAM	NIZAKAT BEGUM ✓	SAID MOHAMMAD	BUNER	CT	15	MA	MED	2ND	10/08/1974	10/12/1999	10/12/1999	10/12/1999	
	11	GGHS SHALBANDI	MUMLIKAT BEGUM ✓	TAJ MUHAMMAD KHAN	BUNER	CT	15	MA	BED	2ND	06/03/1977	13/09/1995	15/12/1999	15/12/1999	
	12	GGHS CHINGLAI	GULSHAN ARA ✓	LUTFUR REHMAN	BUNER	CT	15	BA	CT	2ND	13/05/1962	26/05/1987	16/12/1999	16/12/1999	
	13	GGMPS JICA DAGGAR QILA	RUKHSANA BEGUM ✓	SHIEKH ABDUR RASHID	BUNER	CT	15	MA	MED	2ND	03/04/1973	27/04/1992	16/12/1999	16/12/1999	
	14	GGHS TOTALAI	JEHAN ARA ✓	NUR HASSAN	BUNER	CT	14	BA	CT	2ND	01/01/1975	27/05/1993	17/12/1999	17/12/1999	
	15	GGHS KAWGA	MERAJ ZARI ✓	TABAN	BUNER	CT	15	MA	MED	2ND	07/04/1975	20/05/1993	17/12/1999	17/12/1999	
	16	GGHSS KALPANI	ZAHIDA ✓	ZIARAT KHAN	BUNER	CT	15	MA	BED	2ND	05/06/1976	19/12/1994	17/12/1999	17/12/1999	
	17	GGHS BAGRA	NAHEED BEGUM ✓	MUHAMMAD KHAN	BUNER	CT	15	MA	MED	2ND	11/12/1975	17/02/1994	18/12/1999	18/12/1999	
	18	GGHSS PACHA KALAY	KALSOOM BIBI ✓	SYED RAHIM SHAH	BUNER	CT	15	MA	BED	2ND	11/11/1973	30/11/2002	30/11/2002	30/11/2002	
	19	GGHS SOWARI	SALMA BEGUM ✓	SAID QAMAR	BUNER	CT	15	BA	CT	2ND	01/08/1980	30/11/2002	30/11/2002	30/11/2002	
	20	GGHS TOPAI	SAIQA KHAN ✓	MUHAMMAD ZAMAN KHAN	BUNER	CT	15	BA	MED	2ND	11/11/1976	01/12/2002	01/12/2002	01/12/2002	

Attested

23

S.NO	NAME OF SCHOOL	TEACHER NAME	FATHER / HUSBAND NAME	DOMICILE	DESIG:	BPS	ACAD: QUAL:	PROF: QUAL:	B:A DIV	D.O.B	DATE OF 1ST APPT. IN EDUCATION	DATE OF REGULAR APPT. AGAINST THE POST	DATE OF TAKING OVER CHARGE ON THE PRESENT POST	REMARKS
21	GGHS KORYA	NIZAKAT	MUHAMMAD HAKIM	BUNER	CT	14	MA	BED	2ND	01/02/1981	01/12/2002	01/12/2002	01/12/2002	
22	GGHS KORYA	UMMI KALSOOM	ABDUL SALAM	BUNER	CT	15	BA	MED	2ND	29/03/1981	03/12/2002	03/12/2002	03/12/2002	
23	GGHS DAGAI	SAJIDA	JAMIL KHAN	BUNER	CT	14	BA	CT	1ST	08/10/1977	20/12/2002	20/12/2002	20/12/2002	
24	GGHS SOWARI	FARIDA KHANUM	ABDUL WAHID	BUNER	CT	15	BA	CT	2ND	18/12/1972	25/04/1992	30/05/2003	30/05/2003	
25	GGMPS JICA DAGGAR QILA	MAHJABEEN ZAHIR	KASHMALAY	BUNER	CT	15	MA	MED	2ND	12/12/1971	16/12/1989	01/06/2003	01/06/2003	
26	GGMS ELAI	RAKHMEENA	SHAMSOOL	BUNER	CT	15	BA	CT	2ND	05/03/1975	06/03/1993	01/06/2003	01/06/2003	
27	GGMS DEWANA BABA	PAIMAN BEGUM	SHEIKH ABDUR RASHID	BUNER	CT	15	BA	CT	3RD	01/04/1975	22/05/1993	01/06/2003	01/06/2003	
28	GGHS BATANAI	SAEEDA	MIRAN SHAH	BUNER	CT	15	BA	BED	2ND	04/04/1975	27/05/1993	01/06/2003	01/06/2003	
29	GGHS DAGAI	SOHAILA NAZ	MUHAMMAD SHERIN	BUNER	CT	15	BA	CT	2ND	16/04/1975	14/10/1993	01/06/2003	01/06/2003	
30	GGMS AMAZO KOTO	PARVEEN SHAHEEN	ABDUR RASHID	BUNER	CT	15	BA	CT		01/04/1976	13/09/1995	01/06/2003	01/06/2003	
31	GGMS ELAI	NASREEN BEGUM	BAKHT MERAJ	BUNER	CT	15	MA	MED	2ND	10/05/1976	13/09/1995	01/06/2003	01/06/2003	
32	GGMS KASS KOROONA	HAMIDA BEGUM	MIR GHULAM	BUNER	CT	15	MA	MED	2ND	05/03/1977	13/09/1995	01/06/2003	01/06/2003	
33	GGMS DAGGAR	TAZKIRAH	FAZAL HALIM	BUNER	CT	15	MA	CT	2ND	06/05/1977	29/08/1996	01/06/2003	01/06/2003	
34	GGHSS PACHA KALAY	NASIM AKHTAR	SHAH ZAMAN KHAN	BUNER	CT	9	FA	CT	NIL	03/10/1977	25/08/1996	01/06/2003	01/06/2003	
35	GGMS KASS KOROONA	NASREEN BEGUM	NOOR HASSAN	BUNER	CT	15	MA	BED	2ND	01/03/1978	24/08/1996	01/06/2003	01/06/2003	
36	GGHSS PACHA KALAY	SHIMA HARAM	DAWOOD KHAN	BUNER	CT	9	FA	CT	NIL	04/05/1978	25/08/1996	01/06/2003	01/06/2003	
37	GGHS PANJTAR	SHAGUFTA JABEEN	KHALIQ DAD	BUNER	CT	15	MA	MED	2ND	04/04/1979	09/09/1997	01/06/2003	01/06/2003	
38	GGHSS KALPANI	NUSRAT	KHAN ZADA	BUNER	CT	15	MA	BED	2ND	08/04/1979	30/06/1997	01/06/2003	01/06/2003	
39	GGMPS JICA DAGGAR QILA	RAZIA BIBI	SAID BASHAR	BUNER	CT	15	MA	MED	2ND	01/01/1980	19/05/1998	01/06/2003	01/06/2003	
40	GGMS CHANAR	SHAHEEN	MIRAN SAID	BUNER	CT	15	MA	BED	2ND	01/05/1981	01/06/2003	01/06/2003	01/06/2003	
41	GGHS SURA	SHAKIRA	FARIDUL HAQ	BUNER	CT	14	BA	CT	2ND	19/04/1983	01/06/2003	01/06/2003	01/06/2003	
42	GGHS BAZARGAI	SAMIYA RAHIM	NOOR RAHIM	BUNER	CT	15	BA	CT	2ND	30/10/1984	13/06/2003	13/06/2003	13/06/2003	

Shaukat

Attested

30/11/2003

24

NO	NAME OF SCHOOL	TEACHER NAME	FATHER / HUSBAND NAME	DOMICILE	DESIG.	BPS	ACAD. QUAL.	PROF. QUAL.	B.A DIV	D.O.B	DATE OF 1ST APPT. IN EDUCATION	DATE OF REGULAR APPT. AGAINST THE POST	DATE OF TAKING OVER CHARGE ON THE PRESENT POST	REMARKS
43	GGMS NOGRAM	WAHEEDA	MIR MUHAMMAD	BUNER	CT	15	MA	BED	2ND	01/01/1973	20/06/2003	20/06/2003	20/06/2003	
44	GGMS ANGHAPUR	KAUSAR SHAHEEN	MIAN SANAUULLAH	BUNER	CT	15	BA	CT	2ND	01/04/1969	01/09/1990	11/09/2003	11/09/2003	
45	GGMS PACHA KALAY	SAMINA BIBI	HAIDER ALI	BUNER	CT	15	BA	CT	1ST	30/11/1970	27/04/1992	12/09/2003	12/09/2003	
46	GGHS TOPAI	FARZANA KHAN	MUHAMMAD ZAMAN KHAN	BUNER	CT	9	FA	CT	NIL	21/07/1973	24/08/1996	12/09/2003	12/09/2003	Not Eligible
47	GGMS TOTALAI	ARJUMAND SHAHEEN	HABIB UR RAHMAN	BUNER	CT	15	MA	BED	2ND	10/03/1978	15/09/2003	15/09/2003	15/09/2003	
48	GGMS JICA DAGGAR QILA	SHAFIA	AZIZUR RAHMAN	BUNER	CT	9	FA	CT		25/09/1981	15/09/2003	15/09/2003	15/09/2003	
49	GGMS BATAI	FATIMA	FAZAL MAULA	BUNER	CT	14	BA	CT	2ND	14/03/1976	13/09/1995	16/09/2003	16/09/2003	
50	GGHS KARAPA	SAEEDA BEGUM	MUHAMMAD ISHAQ	BUNER	CT	15	BA	CT	2ND	07/07/1957	27/10/1980	01/03/2004	01/03/2004	
1	GGHS SHALBANDI	FARIDA BEGUM	ZAR JAMIL KHAN	BUNER	CT	15	MA	BED	3RD	17/04/1970	25/04/1988	01/03/2004	01/03/2004	
2	GGHS BAGRA	NAEEMA	FAZAL HALEEM	BUNER	CT	15	MA	MED	2ND	15/10/1974	17/05/1993	01/03/2004	01/03/2004	
3	GGMS KULAYARI	ASIA	SAID LAIQ SHAH	BUNER	CT	15	MA	BED	3RD	01/01/1975	17/12/1994	01/03/2004	01/03/2004	
4	GGMS CHARORAI	TALAT BIBI	MOHAMMAD ISHAQ	BUNER	CT	9	FA	CT	NIL	05/01/1966	24/09/1986	03/03/2004	03/03/2004	
5	GGMS KULAYARI	BAKHT NAMIA	YAQOOB SHAH	BUNER	CT	15	MA	BED	3RD	03/02/1977	19/12/1994	07/03/2004	07/03/2004	
6	GGMS AMNAWAR	ASMA BIBI	MUHAMMAD YAQOOB	BUNER	CT	15	MA	MED	2ND	20/01/1981	01/12/2004	01/12/2004	01/12/2004	
7	GGHS MATWANI	JEHAN ARA	MUHAMMAD ISHAQ	BUNER	CT	9	FA	CT	NIL	26/04/1970	04/12/1989	09/12/2004	09/12/2004	
8	GGHS SHADAM	MUBARAK JAN	SYED HAMID SHAH	BUNER	CT	15	BA	BED	2ND	01/04/1974	22/12/1994	09/12/2004	09/12/2004	
9	GGMS MAKHRANAI	MAHITALAT	SAID HAROOF SHAH	BUNER	CT	15	BA	BED		09/09/1976	18/12/1994	09/12/2004	09/12/2004	
10	GGHS PANJTAR	WERAWANTI KOR	HUNS RAJ	BUNER	CT	15	MA	BED	2ND	02/01/1977	18/12/1994	09/12/2004	09/12/2004	
11	GGHS CHEENA	TAREENJEET KUMARI	KAWAL RAM	BUNER	CT	15	MA	BED	2ND	02/06/1981	02/12/2002	09/12/2004	09/12/2004	
12	GMS KINGER GALI	BAKHTMAN ZARI	RAHIMDAD KHAN	BUNER	CT	15	MA	BED	2ND	01/02/1974	26/04/1992	01/11/2005	01/11/2005	
13	GMS KINGER GALI	BAKHTIYA BEGUM	SYED KABOOT SHAH	BUNER	CT	15	MA	BED	1ST	09/03/1975	13/10/1993	01/11/2005	01/11/2005	
14	GHS SURA	ASIA RANI	HAMIDUL HAQ	BUNER	CT	15	BA	MED	2ND	12/06/1984	01/06/2003	01/11/2005	01/11/2005	

[Handwritten signature]

Attested

(25)

S.NO	NAME OF SCHOOL	TEACHER NAME	FATHER / HUSBAND NAME	DOMICILE	DESIG:	BPS	ACAD: QUAL:	PROF: QUAL:	B.A DIV	D.O.B	DATE OF 1ST APPT: IN EDUCATION	DATE OF REGULAR APPT: AGAINST THE POST	DATE OF TAKING OVER CHARGE ON THE PRESENT POST	REMARKS
65	GGHS SHADAM	NIHAYAT BIBI	MOHAMMAD IBRAHIM	BUNER	CT	15	MA	BED	2ND	29/02/1975	14/03/1993	01/11/2005	01/11/2005	
66	GGMS CHANAR	NAHEED AKHTAR	ALI MAND	BUNER	CT	15	BA	CT	3RD	01/01/1978	22/08/1996	15/09/2006	16/09/2006	
67	GGHS BAZARGAI	SAEEDA BIBI	SAEEDUR RAZIQ	BUNER	CT	15	BA	BED		01/05/1980	15/09/2006	15/09/2006	15/09/2006	
68	GGHS KARAPA	SHAHEEN BEGUM	NASRULLAH KHAN	BUNER	CT	15	BA	BED	3RD	01/02/1976	13/09/1995	16/09/2006	16/09/2006	
69	GGMS KATKALA	SHAHNAZ BEGUM	TAHIR RAHMAN	BUNER	CT	15	MA	MED	1ST	22/04/1981	01/12/2002	16/09/2006	16/09/2006	
70	GGMS KATKALA	SHABNAM	KAMIL	BUNER	CT	15	MA	BED		10/08/1982	16/09/2006	16/09/2006	16/09/2006	
71	GGHS JOWAR	SHAHEEN	BAKSHAD	BUNER	CT	14	BA	CT	2ND	05/01/1983	30/11/2002	16/09/2006	16/09/2006	
72	GGMS CHARORAI	SAADAT BIBI	ABDUL WAHEED	BUNER	CT	15	BA	CT	2ND	18/03/1985	13/04/2004	16/09/2006	16/09/2006	
73	GGMS BATAI	AZRA	BAHADUR KHAN	BUNER	CT	15	BA	CT	2ND	05/08/1981	18/09/2006	18/09/2006	18/09/2006	
74	GGMS KHANANO DERAJ	RAHAT NASRIN	KHALILUR RAHMAN	BUNER	CT	15	BA	CT	2ND	15/12/1981	19/09/2006	19/09/2006	19/09/2006	
75	GGMS BATANAI	NUSRAT BEGUM	MUHAMMAD SHERIN	BUNER	CT	15	MA	CT	3RD	15/03/1977	30/12/1996	04/10/2006	04/10/2006	
76	GGMS PANDAIR	ALIA	JAMER KHAN	BUNER	CT	14	BA	CT	2ND	04/04/1980	17/06/2003	14/04/2009	14/04/2009	
77	GGHS MATWANI	NASREEN BEGUM	AMANULLAH KHAN	BUNER	CT	9	FA	CT	NIL	21/04/1980	14/04/2009	14/04/2009	14/04/2009	
78	GGMS ANGHAPUR	BIBI FATIHA	M.ZAHIR SHAH	BUNER	CT	9	MA	BED	2ND	10/05/1980	14/04/2009	14/04/2009	14/04/2009	
79	GGMS DEWANA BABA	YASMIN	SKHWAT SHAH	BUNER	CT	14	BA	BED	2ND	20/02/1987	14/04/2009	14/04/2009	14/04/2009	
80	GGMS BATAI	RAHAT	NASIB GUL	BUNER	CT	9	FA	CT	NIL	04/04/1982	01/12/2002	15/04/2009	15/04/2009	
81	GGMS GUL BANDAI	MAUZIZA	SUBHANULLAH	BUNER	CT	14	BA	CT	2ND	25/05/1981	14/04/2004	16/04/2009	16/04/2009	
82	GGMS KHANANO DERAJ	JAMILA	HAZRAT UMAR	BUNER	CT	14	BA	CT	1ST	10/03/1982	01/06/2003	24/04/2009	24/04/2009	
83	GGMS PANDAIR	KHUSIRAT	SHAMSUL QAMAR	BUNER	CT	14	BA	CT	2ND	09/03/1983	25/04/2009	25/04/2009	25/04/2009	
84	GGMS GHAZI KOT	FARZANA	MIR ASLAM	BUNER	CT	9	BA	CT	2ND	06/03/1985	27/07/2009	27/07/2009	27/07/2009	
85	GGMS BAMOKHA	SHAMIM ARA	MUHAMMAD KHAN	BUNER	CT	9	BA	CT	2ND	06/11/1974	02/10/1993	02/12/2011	02/12/2011	
86	GGMS GUL BANDAI	NOORHAD BIBI	NAZIR AHMAD	BUNER	CT	9	BA	CT	2ND	09/06/1976	19/12/1994	02/12/2011	02/12/2011	

Shamim ARA
2011

Attested

(25)

S.NO	NAME OF SCHOOL	TEACHER NAME	FATHER / HUSBAND NAME	DOMICILE	DESIG:	BPS	ACAD: QUAL:	PROF: QUAL:	B.A DIV	D.O.B	DATE OF 1ST APPT: IN EDUCATION	DATE OF REGULAR APPT: AGAINST THE POST	DATE OF TAKING OVER CHARGE ON THE PRESENT POST	REMARKS
87	GGMS KASS KORONA	FATIMA BIBI	KHAN SHER	BUNER	CT	9	BA	CT	2ND	28/10/1976	21/12/1994	02/12/2011	02/12/2011	
88	GGMS KINGER GALI	ISHRAT JEHAN	SHAH JEHAN	BUNER	CT	9	BA	BED	2ND	31/05/1977	17/12/1999	02/12/2011	02/12/2011	
89	GGHS BATANAI	AKHTARI NAZ	SULTAN MOHAMMAD	BUNER	CT	14	MA	MED	2ND	16/04/1972	23/04/1992	03/12/2011	03/12/2011	
90	GGMS SAWAWAI	NAHEED NAZ	MUKAMMIL SHAH	BUNER	CT	9	BA	CT	2ND	05/02/1979	17/07/1998	03/12/2011	03/12/2011	
91	GGMS BATARA	SAHIRA	GUL RAHIM	BUNER	CT	15	BA	CT	2ND	15/08/1979	20/05/1998	21/12/2011	21/12/2011	
92	GGMS SAWAWAI	BIBI BASIRAT	UMER GUL	BUNER	CT	9	MA	BED, C	2ND	02/01/1984	01/06/2003	16/02/2012	16/02/2012	
93	GGHS SHADAM	NADIA SALEEM	MUHAMMAD SALIM	BUNER	CT	9	BSC	BED	1ST	18/02/1985	24/02/2012	24/02/2012	24/02/2012	
94	GGHS CHINGLAI	ZAHIDA BEGUM	INAYATULLAH	BUNER	CT	15	MA	MED	2ND	27/02/1975	24/06/1997	08/06/2012	08/06/2012	
95	GGHS BAZARGAI	SAMANIA	SHAH MARDAN	BUNER	CT	15	BA	BED	2ND	27/10/1975	25/11/1995	20/09/2012	20/09/2012	
96	GGMS KINGER GALI	FARHAT ANJUM	MUHAMMAD SHAH KHAN	BUNER	CT	15	BA	CT	2ND	25/03/1987	20/09/2012	20/09/2012	20/09/2012	
97	GGMS MANGAL THANA	SEEMA	ABDUR RASHID	BUNER	CT	15	BA	CT	2ND	06/04/1988	20/09/2012	20/09/2012	20/09/2012	
98	GGMS TANGORA	KHATAM BIBI	ZAHIR MUHAMMAD KHAN	BUNER	CT					01/03/1989	20/09/2012	20/09/2012	20/09/2012	
99	GGHS BAZARGAI	SHAZIA	SHAH JEHAN	BUNER	CT	15	BA	CT	2ND	01/01/1975	12/10/1993	01/10/2012	01/10/2012	
100	GGMS GHAZI KOT	SALMA NAUREEN	NOT PROVIDED S.BOOK											
101	GGHS PANJTAR	HAMEEDA BANO												

ASSISTANT DISTRICT OFFICER (F)
ELEMENTARY & SECONDARY
EDUCATION BUNER

DISTRICT OFFICER (F)
ELEMENTARY & SECONDARY
EDUCATION BUNER

EXECUTIVE DISTRICT OFFICER
ELEMENTARY & SECONDARY
EDUCATION BUNER

Attested

بعدالت دارالقضاء سوات

قیمت ایک روپیہ	کورٹ فیس
----------------	----------

مقدمہ دعویٰ جرم
 مورخہ 2014ء — 20.12.14
 مہر حسین (الراہیہ) بنام وکیل صاحبہ ابرارہ کونڈی (اندر لیس)

باعث تحریر آنکہ

مقدمہ مندرجہ بالا میں اپنی طرف سے واسطے پیروی وجواب دہی و کل کاروائی متعلقہ آن مقام دارالقضاء سوات میں دسٹیکس ابرارہ کونڈی ابرارہ کونڈی مقرر کر کے اقرار کیا جاتا ہے کہ صاحب موصوف کو مقدمہ کی کل کاروائی کا کامل اختیاط ہوگا۔ نیز وکیل صاحب کو راضی نامہ و تقرر ثالث و فیصلہ پر حلف دینے جواب دی اور اقبال دعویٰ اور درخواست ہر قسم کی تصدیق زراس پر دستخط کرنے کا اختیار ہوگا نیز بصورت عدم پیروی یا ڈگری ایک طرف یا اپیل کی برآمد ہوگی اور منسوخ ڈائر کرنے اپیل نگرانی و نظر ثانی و پیروی کرنے کا اختیار ہوگا۔ بصورت ضرورت مذکور کے نسل یا جزوی کاروائی کے واسطے اور وکیل یا مختار قانونی کو اپنی ہمراہ یا اپنی بجائے تقرر کا اختیار ہوگا۔ اور صاحب مقرر شدہ کو بھی جملہ مذکورہ بالا اختیارات حاصل ہونگے اور اسکا ساختہ برواختہ منظور و قبیل ہوگا اور دوران مقدمہ میں جو خرچہ و ہر جانہ التوائے مقدمہ کے سبب سے ہا گا اسکے مستحق وکیل صاحب ہونگے۔ نیز بقایا خرچہ کی وصولی کرتے وقت کا بھی اختیار ہوگا اگر کوئی تاریخ پیشی مقام دورہ ہر ہو یا حد سے باہر ہو تو وکیل صاحب پابند نہ ہونگے کی پیروی مقدمہ مذکور لہذا وکالت نامہ لکھ دیا ک سند ہے

۱۲ دسمبر ۲۰۱۴

FILED TODAY
 Additional Registrar
 2 DEC 2014

گواہ شدہ العبد
 سون دارالقضاء



Attested and accepted by
 Shuns ul Hadi Achund

PESHAWAR HIGH COURT, MINGORA BENCH
(DAR-UL-QAZA), SWAT

FORM OF ORDER SHEET

Court of

Case No..... of.....

Serial No. of order or proceeding 1	Date of Order or Proceedings 2	Order or other Proceedings with Signature of Judge and that of parties or counsel where necessary. 3
	17-12-14	<p><u>W.P. No. 589-M/2014 with Interim Relief.</u></p> <p>Present: Petitioner, in person. ***</p> <p>Due to tragic incident of Peshawar, the lawyer's community is observing mourning, as per call of Pakistan Bar Council, therefore, this case cannot be heard. Office is directed to fix the instant case in the first available D.B.</p> <p style="text-align: right;"> JUDGE</p> <p style="text-align: right;"> JUDGE</p>



Office
22/12

PESHAWAR HIGH COURT, MINGORA BENCH
(DAR-UL-QAZA), SWAT

FORM OF ORDER SHEET

Court of

Case No..... of

Serial No. of order or proceeding	Date of Order or Proceedings	Order or other Proceedings with Signature of Judge or Magistrate and that of parties or counsel where necessary.
1	2	3
	24.12.2014	<p><u>W.P. No.589-M/2014.</u></p> <p>Present: Mr. Shams-ul-Hadi, advocate for the petitioner.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>At the very outset, the learned counsel was apprised about the prohibitory clause of Article 212 of the Constitution, but it was informed that the learned Service Tribunal is not functional due to absence of Chairman, therefore, he has approached this Court in the matter. Let comments of respondents No.1 & 2 be sought for so as to reach this Court within a period of fortnight.</p> <p><u>Interim Relief.</u></p> <p>Notice to the other side. Till then, status quo be maintained.</p> <p style="text-align: right;"> JUDGE</p> <p style="text-align: right;"> JUDGE</p>

File
24/12



WP 589/19

صیغہ دیوانی اپیل انگریزی آرٹ پٹیشن مقدمہ نمبر

نام

کل خوبان

عنوان

پروانہ انٹرنس بنام: کل خوبان سیکنڈری سکول ٹیکس

حال دفاتر گورنمنٹ سیکنڈری سکول

سکول کو یا ضلع بونیر

03449678217

مقدمہ عنوان بالا میں تاریخ پیشی مورخہ 19-06-2019 بمقام پشاور ہائی کورٹ، مینگورہ بنج ادار القضاء سوات
رو برو مقرر کی گئی ہے۔ لہذا بالاکو بڈز ریونیوٹس اپروانہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ وہ تاریخ
مقررہ عدالت ہذا میں بوقت 08 بجے برائے پیروی مقدمہ و جوابدہی مقدمہ اصالتاً یا مختار تائید کالتاً حاضر ہو جائے۔ بصورت عدم
موجودگی تمہارے خلاف کارروائی یکطرفہ عمل میں لائی جائیگی۔

آج بمورخہ 18-6-2019 کو ثبت دستخط میرے و مہر عدالت سے جاری کیا گیا۔
برائے ایڈیشنل رجسٹرار
پروانہ انٹرنس نمبر 603



صیغہ دیوانی اپیل انگریزی آرٹ پٹیشن مقدمہ نمبر

نام

عنوان

پروانہ انٹرنس بنام:

مقدمہ عنوان بالا میں تاریخ پیشی مورخہ 19-06-2019 بمقام پشاور ہائی کورٹ، مینگورہ بنج ادار القضاء سوات
رو برو مقرر کی گئی ہے۔ لہذا بالاکو بڈز ریونیوٹس اپروانہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ وہ تاریخ
مقررہ عدالت ہذا میں بوقت 08 بجے برائے پیروی مقدمہ و جوابدہی مقدمہ اصالتاً یا مختار تائید کالتاً حاضر ہو جائے۔ بصورت عدم
موجودگی تمہارے خلاف کارروائی یکطرفہ عمل میں لائی جائیگی۔

آج بمورخہ 18-6-2019 کو ثبت دستخط میرے و مہر عدالت سے جاری کیا گیا۔
برائے ایڈیشنل رجسٹرار
پروانہ انٹرنس نمبر



WP 589/14

مقدمہ نمبر: مگرانی اپیل / نگرانی آرٹ پٹیشن

عنوان: گل صوبان
پروانہ انٹریس بنام: The Director Elementary & Secondary Education H.P.K
Civil Secretariat
Peshawar

مقدمہ عنوان بالا میں تاریخ پیشی مورخہ 21-06-19 بمقام پشاور ہائی کورٹ، مینگورہ بنج / ادار القضاء سوات رو برو ~~مقرر~~ مقرر کی گئی ہے۔ لہذا ~~مقرر~~ بالاکو بڈز ریونیوٹس اپروانہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ وہ بتاریخ مقررہ عدالت ہذا میں بوقت 08 بجے صبح برائے بیرونی مقدمہ و جوابدہی مقدمہ اصالتاً یا مختار تائید و کالتاً حاضر ہو جائے۔ بصورت عدم موجودگی تمہارے خلاف کارروائی یکطرفہ عمل میں لائی جائیگی۔

آج بمورخہ 18-6-2019 کو یہ ثبت دستخط میرے و میری عدالت سے جاری کیا گیا۔
برائے ایڈیشنل رجسٹرار
دعویٰ نمبر: 600
پروانہ انٹریس نمبر: 600



WP 589/14

مقدمہ نمبر: مگرانی اپیل / نگرانی آرٹ پٹیشن

عنوان: گل صوبان
پروانہ انٹریس بنام: ~~شی الباقس ایڈووکیٹس~~
447 4773 440

مقدمہ عنوان بالا میں تاریخ پیشی مورخہ 21-06-19 بمقام پشاور ہائی کورٹ، مینگورہ بنج / ادار القضاء سوات رو برو ~~مقرر~~ مقرر کی گئی ہے۔ لہذا ~~مقرر~~ بالاکو بڈز ریونیوٹس اپروانہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ وہ بتاریخ مقررہ عدالت ہذا میں بوقت 08 بجے صبح برائے بیرونی مقدمہ و جوابدہی مقدمہ اصالتاً یا مختار تائید و کالتاً حاضر ہو جائے۔ بصورت عدم موجودگی تمہارے خلاف کارروائی یکطرفہ عمل میں لائی جائیگی۔

آج بمورخہ 18-6-2019 کو یہ ثبت دستخط میرے و میری عدالت سے جاری کیا گیا۔
برائے ایڈیشنل رجسٹرار
دعویٰ نمبر: 601
پروانہ انٹریس نمبر: 601

عدالت عالیہ پشاور ہائی کورٹ، مینگورہ بنج / ادار القضاء سوات



صیغہ یونانی اپیل / نگرانی آرٹ پٹیشن مقدمہ نمبر: 19-06-2015

عنوان: گل خوبان
پروانہ انٹریٹس بنام: Govt of Punjab
Chief Secretary of
Peshawar

مقدمہ عنوان بالا میں تاریخ پیشی مورخہ 19-06-2015 بمقام پشاور ہائی کورٹ، مینگورہ بنج / ادار القضاء سوات
رو برو کیس مقرر کی گئی ہے۔ لہذا بالاکو بذریعہ نوٹس اپروانہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ وہ بتاریخ
مقررہ عدالت ہذا میں بوقت 08 بجے صبح برائے بیرونی مقدمہ وجوہد ہی مقدمہ اصالتاً یا مختار تائید کالتاً حاضر ہو جائے۔ بصورت عدم
موجودگی تمہارے خلاف کارروائی یکطرفہ عمل میں لائی جائیگی۔

آج بمورخہ 19-06-2015 کو شبیت دستخط میرے و مہر عدالت سے جاری کیا گیا۔
برائے ایڈیشنل رجسٹرار

عدالت عالیہ پشاور ہائی کورٹ، مینگورہ بنج / ادار القضاء سوات



صیغہ یونانی اپیل / نگرانی آرٹ پٹیشن مقدمہ نمبر: 19-06-2015

عنوان: گل خوبان
پروانہ انٹریٹس بنام: District Education Officer
Female Buses

مقدمہ عنوان بالا میں تاریخ پیشی مورخہ 19-06-2015 بمقام پشاور ہائی کورٹ، مینگورہ بنج / ادار القضاء سوات
رو برو کیس مقرر کی گئی ہے۔ لہذا بالاکو بذریعہ نوٹس اپروانہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ وہ بتاریخ
مقررہ عدالت ہذا میں بوقت 08 بجے صبح برائے بیرونی مقدمہ وجوہد ہی مقدمہ اصالتاً یا مختار تائید کالتاً حاضر ہو جائے۔ بصورت عدم
موجودگی تمہارے خلاف کارروائی یکطرفہ عمل میں لائی جائیگی۔

آج بمورخہ 19-06-2015 کو شبیت دستخط میرے و مہر عدالت سے جاری کیا گیا۔
برائے ایڈیشنل رجسٹرار

پروانہ انٹریٹس نمبر 599



۱۹۶۶ ۵۸۹۱۶

صیغہ دیوانی اپیل انگریزی آرٹ پٹیشن مقدمہ نمبر

عنوان: کل خویان
پر وائے انٹوس بنام: ایم جاد ریبرٹ

تاریخ: ۱۹-۰۶-۱۹۸۵
۰۳۱۳۹۰۱۸۵

مقدمہ عنوان بالا میں تاریخ پیشی مورخہ ۱۹-۰۶-۱۹۸۵ بمقام پشاور ہائی کورٹ، مینگورہ بنج ادار القضاء سوات رو برو عدالت مقرر کی گئی ہے۔ لہذا قریباً بالاکو بذریعہ نوٹس اپروانہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ وہ بتاریخ مقررہ عدالت ہذا میں بوقت ۰۸ بجے برائے بیرونی مقدمہ وجوہ ابراہی مقدمہ اصالتاً یا مختار تائماً وکالتاً حاضر ہو جائے۔ بصورت عدم موجودگی تمہارے خلاف کارروائی یکطرفہ عمل میں لائی جائیگی۔

آج بمورخہ ۱۹-۰۶-۱۹۸۵ کو یہ شبہ دستخط میرے و ہمہ عدالت سے جاری کیا گیا۔
برائے ایڈیشنل رجسٹرار
پروانہ انٹوس نمبر ۵۹۶



۱۹۶۶ ۵۸۹۱۶

صیغہ دیوانی اپیل انگریزی آرٹ پٹیشن مقدمہ نمبر

عنوان: کل خویان
پر وائے انٹوس بنام: Wingalat Begum
Posted at G.C. CMS Mavingai Buner
تاریخ: ۱۹-۰۶-۱۹۸۵

مقدمہ عنوان بالا میں تاریخ پیشی مورخہ ۱۹-۰۶-۱۹۸۵ بمقام پشاور ہائی کورٹ، مینگورہ بنج ادار القضاء سوات رو برو عدالت مقرر کی گئی ہے۔ لہذا قریباً بالاکو بذریعہ نوٹس اپروانہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ وہ بتاریخ مقررہ عدالت ہذا میں بوقت ۰۸ بجے برائے بیرونی مقدمہ وجوہ ابراہی مقدمہ اصالتاً یا مختار تائماً وکالتاً حاضر ہو جائے۔ بصورت عدم موجودگی تمہارے خلاف کارروائی یکطرفہ عمل میں لائی جائیگی۔

آج بمورخہ ۱۹-۰۶-۱۹۸۵ کو یہ شبہ دستخط میرے و ہمہ عدالت سے جاری کیا گیا۔
برائے ایڈیشنل رجسٹرار
پروانہ انٹوس نمبر ۵۹۶

BEFORE THE PESHAWAR HIGH COURT, BENCH
MINGORA (DARUL QAZA)

C.M IN W.P.No.589-M/2014

Gul Khuban secondary school Teacher (S.S.T).....Petitioner

Versus


District Education Officer Female Buner & OthersRespondents

INDEX

S#	Description of documents	Annexure	Pages
1.	Application for early hearing dated 25/04/2015		1
2.	Wakalat Nama		2
3.	CNIC of the respondent No.3		34

Respondent No.3

Through Counsel


RAHIM KHAN
ADVOCATE HIGH COURT
Office at District Buner
Cell: 03439049185
Dated: 25/04/2015

*Be fixed before HDB
on priority basis.*

AR Swat
08/6/15
Add: Registrar,
Peshawar High Court
Mingora Bench-227-ul-Qaza, S.W.F

HVC

P 1

BEFORE THE HONORABLE PESHAWAR HIGH COURT,
MINGORA BENCH / DARUL QAZA SWAT.

C.M IN W.P.No.589-M/2014

Gul Khuban secondary school Teacher (S.S.T).....Petitioner

Versus

District Education Officer Female Buner & OthersRespondents

APPLICATION FOR EARLY HEARING


Respectfully Sheweth,

- 1) That the above titled case is pending before this Honorable Court which was fixed for 09/04/2015 but deleted.
- 2) That in the above titled case, status quo order was passed on 17/04/2014, by this Honorable Court as interim relief, in favor of the petitioner.
- 3) That the interest of the students and public both is involved in the above titled case, which Suffer due to the status quo order, so announced.
- 4) That the learned service tribunal of KPK Peshawar is functional nowadays and due to Coram non judice, the above titled case /writ petition is not tenable in this Honorable Court/Forum
- 5) That the disposal of the titled case is necessary and early hearing date is required to be fixed in.


Therefore on acceptance of this application the relief sort may kindly be granted by fixing of the date in question at in early date.

Respondent No.3

Through Counsel


RAHIM KHAN
ADVOCATE HIGH COURT
Office at District Buner
Cell: 03439049185
Dated: 28/06/2015

بعدالت عالیہ کسٹا عدالتی کورٹ منگورہ منجہ ادارہ کھنٹی



مورنہ 25 اگست 2014ء منجانب مسافرتی نمبر 3
مقدمہ گل خربانہ سوئی بنام سید گل ایجوکیشن ائفڈر زمانہ
دعویٰ ریلوے پیدیشن نمبر 589-14 اور دیگر
جرم باعث تحریر آئندہ 2014

مقدمہ مندرجہ عنوان بالا میں اپنی طرف سے واسطے پیروی و جواب دہی دیکل
کارروائی متعلقہ آن مقام سماعت کے لئے فریج صاحب (سید گل) کا
مقرر کر کے اقرار کیا جاتا ہے کہ صاحب موصوف کو مقدمہ کی کل کارروائی کا کامل اختیار ہوگا۔ نیز
وکیل صاحب کو کرنے راضی نامہ و تقرر ثالث و فیصلہ بر حلف دیے جواب دہی اور اقبال دعویٰ اور
بصورت ڈگری کرنے اجراء اور وصولی چیک نہ روپیہ اور عرضی دعویٰ اور درخواست ہر قسم کی تصدیق
زرائیں پر دستخط کرانے کا اختیار ہوگا۔ نیز بصورت عدم پیروی یا ڈگری یکطرفہ یا اپیل کی برآمد اور
منسوخی نیز دائر کرنے اپیل نگرانی و نظر ثانی و پیروی کرنے کا اختیار ہوگا۔ اور بصورت ضرورت
مقدمہ مذکور کے کل یا جزوی کارروائی کے واسطے اور وکیل یا مختار قانونی کو اپنے ہمراہ یا اپنی بجائے
تقرر کا اختیار ہوگا۔ اور صاحب مقرر شدہ کو بھی وہی جملہ مذکورہ بالا اختیارات حاصل ہوں گے اور
اس کا ساختہ پداختہ منظور و قبول ہوگا۔ دوران مقدمہ میں میں جو خرچہ و ہرجانہ التوائے مقدمہ کے
سبب سے ہوگا۔ اس کے مستحق وکیل صاحب موصوف ہوں گے۔ نیز بقایا و خرچہ کی وصولی کرنے کا
بھی اختیار ہوگا۔ اگر کوئی تاریخ پیشی مقام دورہ پر ہو یا حد سے باہر ہے تو وکیل صاحب پابند نہ ہوں
گے۔ کہ پیروی مذکور کریں۔ لہذا وکالت نامہ لکھد یا کہ سندر ہے۔

المرقوم 25 ماہ اگست 2014ء

العبد گواہ شہد العبد

منگورہ سوات کے لئے منظور ہے۔
Accepted
Rahim Khan
Advocate High Court
Peshawar at Dist Courts Dagga.
25/8/14

العبد

15101-0319290-8
سماہ فریج صاحب
ایجوکیشن ائفڈر زمانہ
منجہ ادارہ کھنٹی
پشاور

Gul Khubari Petitioner.

---Vs---

D E O Buner etc Respondents.

R/Sir,

In compliance with court's order dated: 24-12-14 Resp No. 142
has/have not ^{proposed} submitted comment by AAG till now; however the period given by the
Court has already been expired.

Submitted for order, please.

Incharge V3 Wap
Writ Petition Branch. 29/12/15

Superintendent

May the case be placed before the Hon'ble Court for further order, please.

[Signature]
Superintendent.

Additional Registrar

As proposed.
[Signature]
Add: Registrar,
Peshawar High Court
Mingora Bench/Dar-ul-Qaza, Swat.


APPLICATION FOR ADJOURNMENT

1.	Case No.	WP 589/14.
2.	Title	Gul Khwan —Vs— DEO Buner et
3.	Case fixed for	09-04-15.
4.	Application by	Shamsul Hadi Advocate For Petitioner.
5.	Reason(s)	Counsel is not able to argue this case due to rush of work.
6.	Whether stay granted	<input checked="" type="checkbox"/> Yes
7.	Stay when granted	<input checked="" type="checkbox"/> 24-12-14
8.	Stay granted to	<input checked="" type="checkbox"/> Petitioner
9.	Previous Application	-
10.	Case Status	Notice

Dated:


Submitted for orders, please.

R/Sir
revised,
Judge
28.4.15


HVC

Superintendent:

Additional Registrar:


-8/4/2015
Shall remain on cause list.

Adjourned/ Allowed

Hon'ble Judge

**BEFORE THE PESHAWAR HIGH COURT MINGORA
BENCH/ DARUL QAZA**

W.P No: 589/2014

Gul Khuban.....Petitioners

VERSUS

D.E.O Buner.....Respondents

APPLICATION FOR ADJOURNMENT:

1. That the above title case is pending before this Honorable Court and is fixed for hearing on dated 09.04.2015.
2. That the counsel for the petitioner is not argue the case by rush of work on the same date.

It is therefore most humbly prayed that the acceptance of this application the case may kindly be adjourned.

Counsel for the petitioners

**Shams Ul Hadi Advocate
High Court.**

**BEFORE THE PESHAWAR HIGH COURT MINGORA
BENCH/ DARUL QAZA**

W.P No: 589/2014

Gul Khuban.....Petitioners

VERSUS

D.E.O Buner.....Respondents

APPLICATION FOR ADJOURNMENT:


1. That the above title case is pending before this Honorable Court and is fixed for hearing on dated 09.04.2015.
2. That the counsel for the petitioner is not argue the case by rush of work on the same date.

It is therefore most humbly prayed that the acceptance of this application the case may kindly be adjourned.

Counsel for the petitioners

**Shams Ul Hadi Advocate
High Court.**

بعد الترتیب اور ہائی کورٹ سرکٹ بیسٹیم دارالافتیٰ منگورہ ہوا



مورنہ 25 فروری 2015ء منجانب جماعت خزانہ کتب معلوم
 مقدمہ جماعت گل خیزبان بنام ڈی ای او زمانہ / الی الی علی ط / ارسا منگورہ
 دعویٰ رش بدیش نمبر 589 / کونٹر و عودہ / مہر 3
 جرم
 2014
 باعث تحریر آنکہ

مقدمہ مندرجہ عنوان بالا میں اپنی طرف سے واسطے پیروی و جواب دہی وکل کارروائی متعلقہ آن مقام منگورہ کے لئے وکیم خان امید وکیل ہائی کورٹ منگورہ مقرر کر کے اقرار کیا جاتا ہے کہ صاحب موصوف کو مقدمہ کی کل کارروائی کا کامل اختیار ہوگا۔ نیز وکیل صاحب کو کرنے راضی نامہ و تقرر ثالث و فیصلہ بر حلف دیے جواب دہی اور اقبال دعویٰ اور بصورت ڈگری کرنے اجراء اور وصولی چیک نہ روپیہ اور عرضی دعویٰ اور درخواست ہر قسم کی تصدیق زرائیں پر دستخط کرانے کا اختیار ہوگا۔ نیز بصورت عدم پیروی یا ڈگری یکطرفہ یا اپیل کی برآمد اور منسوخی نیز دائر کرنے اپیل نگرانی و نظر ثانی و پیروی کرنے کا اختیار ہوگا۔ اور بصورت ضرورت مقدمہ مذکور کے کل یا جزوی کارروائی کے واسطے اور وکیل یا مختار قانونی کو اپنے ہمراہ یا اپنی بجائے تقرر کا اختیار ہوگا۔ اور صاحب مقرر شدہ کو بھی وہی جملہ مذکورہ بالا اختیارات حاصل ہوں گے اور اس کا ساختہ پرداختہ منظور و قبول ہوگا۔ دوران مقدمہ میں جو خرچہ و ہرجانہ التوائے مقدمہ کے سبب سے ہوگا۔ اس کے مستحق وکیل صاحب موصوف ہوں گے۔ نیز بقایا و خرچہ کی وصولی کرنے کا بھی اختیار ہوگا۔ اگر کوئی تاریخ پیشی مقام دورہ پر ہو یا حد سے باہر ہے تو وکیل صاحب پابند نہ ہوں گے۔ کہ پیروی مذکور کریں۔ لہذا وکالت نامہ لکھ دیا کہ سندر ہے۔


FILED TODAY

Amir

Additional Registrar

10 MAR 2015

الرقوم 25 باہ فروری 2015ء

العبد  گواہ شد العبد

مختار


جماعت خزانہ کتب معلوم

1510d-0329746-1

کو کھنڈا گرنی بائی سٹور

دارالافتیٰ منگورہ

Attested and Accepted.



RAHIM KHAN
 Advocate High Court Buner

OFFICE BUNER. CELL
 No-03439049185



عدالت عالیہ پشاور ہائی کورٹ، مینگورہ بنچ / ادار القضاء سوات

صیغہ دیوانی اپیل / نگرانی آرٹ پٹیشن مقدمہ نمبر: _____

عنوان: _____

پروانہ انٹوس بنام: _____

ماہ ۰۶ - ۰۹

مقدمہ عنوان بالا میں تاریخ پیشی مورخہ _____ بمقام پشاور ہائی کورٹ، مینگورہ بنچ / ادار القضاء سوات
رو برو _____ مقرر کی گئی ہے۔ لہذا _____ بالا کو بذریعہ نوٹس / پروانہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ وہ بتاریخ
مقررہ عدالت ہذا میں بوقت 08 بجے صبح برائے پیروی مقدمہ و جوابدہی مقدمہ اصالتاً یا مختار تائید و کالتاً حاضر ہو جائے۔ بصورت عدم
موجودگی تمہارے خلاف کاروائی یکطرفہ عمل میں لائی جائیگی۔

آج بمورخہ _____ کو بہ مثبت دستخط میرے و مہر عدالت سے جاری کیا گیا۔

برائے ایڈیشنل رجسٹرار



عدالت عالیہ پشاور ہائی کورٹ، مینگورہ بنچ / ادار القضاء سوات

صیغہ دیوانی اپیل / نگرانی آرٹ پٹیشن مقدمہ نمبر: _____

عنوان: _____

پروانہ انٹوس بنام: _____

ماہ ۰۶ - ۰۹

مقدمہ عنوان بالا میں تاریخ پیشی مورخہ _____ بمقام پشاور ہائی کورٹ، مینگورہ بنچ / ادار القضاء سوات
رو برو _____ مقرر کی گئی ہے۔ لہذا _____ بالا کو بذریعہ نوٹس / پروانہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ وہ بتاریخ
مقررہ عدالت ہذا میں بوقت 08 بجے صبح برائے پیروی مقدمہ و جوابدہی مقدمہ اصالتاً یا مختار تائید و کالتاً حاضر ہو جائے۔ بصورت عدم
موجودگی تمہارے خلاف کاروائی یکطرفہ عمل میں لائی جائیگی۔

آج بمورخہ _____ کو بہ مثبت دستخط میرے و مہر عدالت سے جاری کیا گیا۔

برائے ایڈیشنل رجسٹرار



عدالت عالیہ پشاور ہائی کورٹ، مینگورہ بنچ / ادار القضاء سوات

صیغہ دیوانی اپیل انگریزی آرٹ پٹیشن مقدمہ نمبر: _____
 عنوان: _____ نام _____
 پروانہ انٹوس بنام: _____

مقدمہ عنوان بالا میں تاریخ پیشی مورخہ _____ بمقام پشاور ہائی کورٹ، مینگورہ بنچ ادار القضاء سوات
 روبرو _____ مقرر کی گئی ہے۔ لہذا _____ بالا کو بذریعہ نوٹس اپروانہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ وہ بتاریخ
 مقررہ عدالت ہذا میں بوقت 08 بجے صبح برائے پیروی مقدمہ و جوابدہی مقدمہ اصالتاً یا مختار تائید کالتاً حاضر ہو جائے۔ بصورت عدم
 موجودگی تمہارے خلاف کارروائی یکطرفہ عمل میں لائی جائیگی۔
 آج بمورخہ _____ کو بہ مثبت دستخط میرے و مہر عدالت سے جاری کیا گیا۔
 پروانہ انٹوس نمبر _____ برائے ایڈیشنل رجسٹرار



عدالت عالیہ پشاور ہائی کورٹ، مینگورہ بنچ / ادار القضاء سوات

صیغہ دیوانی اپیل انگریزی آرٹ پٹیشن مقدمہ نمبر: _____
 عنوان: _____ نام _____
 پروانہ انٹوس بنام: _____

مقدمہ عنوان بالا میں تاریخ پیشی مورخہ _____ بمقام پشاور ہائی کورٹ، مینگورہ بنچ ادار القضاء سوات
 روبرو _____ مقرر کی گئی ہے۔ لہذا _____ بالا کو بذریعہ نوٹس اپروانہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ وہ بتاریخ
 مقررہ عدالت ہذا میں بوقت 08 بجے صبح برائے پیروی مقدمہ و جوابدہی مقدمہ اصالتاً یا مختار تائید کالتاً حاضر ہو جائے۔ بصورت عدم
 موجودگی تمہارے خلاف کارروائی یکطرفہ عمل میں لائی جائیگی۔
 آج بمورخہ _____ کو بہ مثبت دستخط میرے و مہر عدالت سے جاری کیا گیا۔
 پروانہ انٹوس نمبر _____ برائے ایڈیشنل رجسٹرار



عدالت عالیہ پشاور ہائی کورٹ، مینگورہ بنچ / ادار القضاء سوات

صیغہ دیوانی اپیل انگریزی آرٹ پٹیشن مقدمہ نمبر: _____

عنوان: _____

پروانہ انٹوس بنام: _____

ماہ کی ۰۹

مقدمہ عنوان بالا میں تاریخ پیشی مورخہ ۰۵ بمقام پشاور ہائی کورٹ، مینگورہ بنچ / ادار القضاء سوات
رو برو مقرر کی گئی ہے۔ لہذا بالا کو بذریعہ نوٹس / پروانہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ وہ بتاریخ
مقررہ عدالت ہذا میں بوقت 08 بجے صبح برائے پیروی مقدمہ و جوابدہی مقدمہ اصالتاً یا مختار تائید کالتاً حاضر ہو جائے۔ بصورت عدم
موجودہ گی تمہارے خلاف کارروائی یکطرفہ عمل میں لائی جائیگی۔

آج بمورخہ کو بہ ثبت دستخط میرے و مہر عدالت سے جاری کیا گیا۔

پروانہ انٹوس نمبر برائے ایڈیشنل رجسٹرار



عدالت عالیہ پشاور ہائی کورٹ، مینگورہ بنچ / ادار القضاء سوات

صیغہ دیوانی اپیل انگریزی آرٹ پٹیشن مقدمہ نمبر: _____

عنوان: _____

پروانہ انٹوس بنام: _____

ماہ کی ۰۹

0344968217

مقدمہ عنوان بالا میں تاریخ پیشی مورخہ ۰۵ بمقام پشاور ہائی کورٹ، مینگورہ بنچ / ادار القضاء سوات
رو برو مقرر کی گئی ہے۔ لہذا بالا کو بذریعہ نوٹس / پروانہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ وہ بتاریخ
مقررہ عدالت ہذا میں بوقت 08 بجے صبح برائے پیروی مقدمہ و جوابدہی مقدمہ اصالتاً یا مختار تائید کالتاً حاضر ہو جائے۔ بصورت عدم
موجودہ گی تمہارے خلاف کارروائی یکطرفہ عمل میں لائی جائیگی۔

آج بمورخہ کو بہ ثبت دستخط میرے و مہر عدالت سے جاری کیا گیا۔

پروانہ انٹوس نمبر برائے ایڈیشنل رجسٹرار



**IN THE PESHAWAR HIGH COURT, MINGORA BENCH
DARUL-UL-QAZA, SWAT**

Through A.A.G
Office

No. 10 /Judicial,

Date Mingora, the

02/01/2015

From:

The Additional Registrar,
Peshawar High Court, Mingora Branch/
Dar-ul-Qaza, Swat.

To The Respondent NO 2 - The Director elementary & secondary
Education, Khyber Pakhtoon Khwa, Civil
Secretariat, Peshawar.

Subject:

WRIT PETITION NO.

589-M/14

WITH CM

Gul Khubam


VERSUS

District Education Officer Sdc

MEMO:

I am directed to forward herewith a copy of the order dated 24-12-14
(Reproduced below), passed by a Division Bench of this office Court in the above noted case alongwith a copy of writ
Petition with its annexures for immediate compliance.

I have further been directed to ask you to please forward your comments in quadruplicate duly supported by an
Attested affidavit within the stipulated time, as ordered by the Court.



For (ADDITIONAL REGISTRAR)
D. Jam
01/1/15

(1) ORDER SHEET

(2) COPY OF WRIT PETITION

★ Naeem ★



**IN THE PESHAWAR HIGH COURT, MINGORA BENCH
DARUL-UL-QAZA, SWAT**

*Through A.A.G
Office*

No. 09 /Judicial, Date Mingora, the 02/01 2015

From:
The Additional Registrar,
Peshawar High Court, Mingora Branch/
Dar-ul-Qaza, Swat.

To *The Respondent No 1:- District education Offices (Female) Bones*

Subject: WRIT PETITION NO. 589-M/14 WITH CM

Gul Khubam


VERSUS

District Education Offices

MEMO:

I am directed to forward herewith a copy of the order dated 24-12-14
(Reproduced below), passed by a Division Bench of this office Court in the above noted case alongwith a copy of writ
Petition with its annexures for immediate compliance.

I have further been directed to ask you to please forward your comments in quadruplicate duly supported by an
Attested affidavit within the stipulated time, as ordered by the Court.



Amuliz 2/1/15
FOR (ADDITIONAL REGISTRAR)
R. Jans
01/1/15

- (1) ORDER SHEET
- (2) COPY OF WRIT PETITION



عدالت عالیہ پشاور ہائی کورٹ، مینگورہ بنچ / ادار القضاء سوات

صیغہ دیوانی اپیل انگریزی آرٹ پٹیشن مقدمہ نمبر: W.P 589/14
 عنوان: گل حویبان PST نام حکومت
 پروانہ / نوٹس نام: شہنشاہی ایڈیشن سوات
23/1/14

مقدمہ عنوان بالا میں تاریخ پیشی مورخہ 17-1-14 بمقام پشاور ہائی کورٹ، مینگورہ بنچ ادار القضاء سوات
 روبرو محمد مقرر کی گئی ہے۔ لہذا شہنشاہی ایڈیشن بالا کو بذریعہ نوٹس / پروانہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ وہ بتاریخ
 مقررہ عدالت ہذا میں بوقت 08 بجے صبح برائے پیروی مقدمہ و جوابدہی مقدمہ اصالتاً یا مختار تائید کالتاً حاضر ہو جائے۔ بصورت عدم
 موجودگی تمہارے خلاف کارروائی یکطرفہ عمل میں لائی جائیگی۔

آج بمورخہ 18-1-14 کو بہ ثبت دستخط میرے و مہر عدالت سے جاری کیا گیا۔
 پروانہ / نوٹس نمبر 7044 برائے ایڈیشنل رجسٹرار



عدالت عالیہ پشاور ہائی کورٹ، مینگورہ بنچ / ادار القضاء سوات

صیغہ دیوانی اپیل انگریزی آرٹ پٹیشن مقدمہ نمبر: W.P 589/14
 عنوان: گل حویبان PST نام حکومت
 پروانہ / نوٹس نام: گل حویبان کے نوٹس کے متعلق حال
دھیان گوشت
18/1/14

مقدمہ عنوان بالا میں تاریخ پیشی مورخہ 17-1-14 بمقام پشاور ہائی کورٹ، مینگورہ بنچ ادار القضاء سوات
 روبرو محمد مقرر کی گئی ہے۔ لہذا شہنشاہی ایڈیشن بالا کو بذریعہ نوٹس / پروانہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ وہ بتاریخ
 مقررہ عدالت ہذا میں بوقت 08 بجے صبح برائے پیروی مقدمہ و جوابدہی مقدمہ اصالتاً یا مختار تائید کالتاً حاضر ہو جائے۔ بصورت عدم
 موجودگی تمہارے خلاف کارروائی یکطرفہ عمل میں لائی جائیگی۔

آج بمورخہ 18-1-14 کو بہ ثبت دستخط میرے و مہر عدالت سے جاری کیا گیا۔
 پروانہ / نوٹس نمبر 7045 برائے ایڈیشنل رجسٹرار

IN THE PESHAWAR HIGH COURT, BENCH MINGORA /
DAR-UL-QAZA, SWAT

WRIT PETITION NO. 589-M OF 2014.
Qul Khuban v/s D.E.O

This Petition had been presented by Mr. Shamsul Hadi Advocate

On behalf of the petitioner/petitioners.

This petition is in proper form, copies of all the relevant documents have been attached.

Three (03) spare copies of Writ Petition have also been attached.


Petition be entered in the relevant Register and placed before Hon'able Court (D.B) for further orders on 17-12-2014. the date fixed.



READER

Dated: 12-12-14.

COUNTERSIGNED



Additional Registrar,
Peshawar High Court, Bench
Mingora/Dar-ul-Qaza, Swat.

Dated: 12-12-14.

22-12-14. WP 589/M (M) + IR adjourned from 17-12-14
p. given to the court fixed before HOB on 24-12-14
of course mainly by your petition & us Suneel
Khushiel



21-02-15: IR (N) + WP 589/M adjourned from
24-12-14 & fixed before HOB on
09-04-15 by all concerned judges
Supt.



Deleted from 9.4.15
due to adjournment
application of student
Wadi Akhmed

19-06-15: As per directions the matter WP 589/14 + IR (w)

is fixed before HDB on
inform all concerned

19-06-15

J. Akhmed
Supdt. 12/6/15

URGENT FORM

W.P. No 589-M/014

Title

Sul Chubac SST

Petitioner / Petitioners

VERSUS

District Education Officer (F) Rawal

Respondent / Respondents

1. Will you kindly treat the accompanying C.M as urgent and in accordance with the provisions of Rules, 9 Chapter 3-A Rules of Orders of the High Court, Lahore Volume V.

2. The grounds of urgency are:

That the matters pertains to transfer of the petitioner and the dependent / department possessing the petitioner to release the charge so the titled writ petition may readily be filed before available Division Bench otherwise the titled writ petition will become infructuous if not filed as early as possible.

Dated: 12/12/2014

CELL No: 0347-4273440

Yours obediently,

FILED TODAY
Per Registrar
Additional Registrar

23.09.2015

Counsel for the petitioner present. Arguments heard and record perused.

The instant appeal was sent to this Tribunal by the august Peshawar High Court where-after notice was issued to appellant and his counsel but due to non-appearance the same was dismissed in default on 3.8.2015 and application for restoration of appeal was submitted on 24.8.2015.

According to learned counsel for the petitioner he put his appearance at Peshawar while the case was fixed at Camp Court Swat.

Since the appeal was dismissed in default in limine as such and for the above reason, the application is accepted and appeal restored.

Learned counsel for the appellant seeks adjournment. He is directed to submit appeal in proper format within 10 days in office where-after the appeal be posted for preliminary hearing at Camp Court Swat on 5.10.2015 before S.B.


Chairman

5.10.2015

Counsel for the appellant present. Since the appellant has preferred service appeal No. 1054/2015 as directed by this Tribunal vide order dated 23.9.2015 as such there is no need to proceed with the instant appeal. The same is, therefore, consigned to the record room.





Chairman
Camp Court Swat
05.10.15

ANNOUNCED
5.10.2015

FORM OF ORDER SHEET

Court of _____

Misc. Application No. 97/2015

S.No.	Date of order proceedings	Order or other proceedings with signature of judge or Magistrate
1	2	3
1	24/08/2015	<p style="text-align: center;">The application for restoration of appeal no. 722/2015 submitted by Mst. Gul Khuban through Mr. Shamsul Hadi Advocate may be entered in the relevant Register and put up to the Court for proper order please.</p> <div style="text-align: right;">  REGISTRAR </div>
2-	25-8-15	<p style="text-align: center;">This Misc. application be put up before S. Bench on <u>27-8-15</u></p> <div style="text-align: right;">  CHAIRMAN </div>
3	27.08.2015	<p style="text-align: center;">None present for applicant. Notice to counsel for applicant be issued for 23.9.2015 before S.B.</p> <div style="text-align: right;">  Chairman </div>

BEFORE THE SERVICE TRIBUNAL, KHYBER PAKHTUNKHWA,
PESHAWAR

C.M. No. 97 /2015

In

Service Appeal No. 722 /2015

Mst Gul Khuban.....VS.....D.R.O etc

APPLICATION FOR RESTORATION OF
ABOVE MENTIONED SERVICE APPEAL.

Respectfully Sheweth:

1. That the above titled case was pending adjudication before this Hon'ble Court and was fixed on 03/08/2015.
2. That on the same date applicant and his counsel were in impression that his case is fixed before the tribunal at Peshawar seat but when they came there where they were informed that his case has been transferred to Swat where at Swat the case was dismissed in default.
3. That on the date fixed the applicant was not in knowledge that his case is fixed at Swat bench so he came to Peshawar but when came there at Peshawar where he was informed that his case is fixed at Swat bench so non appearance of applicant and his advocate was not ill ful.
4. That the absence of the counsel and applicant was not intentional but due to the aforesaid reason they could not attend this Hon;ble Tribunal on the date fixed.
5. That the Restoration application is within time.

It is, therefore, humbly prayed that in the interest of justice and on acceptance of this application the above titled Service Appeal may please be restored.

Petitioner

Through



Dated: 19/08/2015

Shams-ul-Hadi
Advocate, High Court

BEFORE THE SERVICE TRIBUNAL, KHYBER PAKHTUNKHWA,

PESHAWAR

C.M. No. _____/2015


In

Service Appeal No. 722/2015

Mst Gul Khuban.....VS.....D.R.O etc

AFFIDAVIT

I, **Shams-ul-Hadi** Advocate, as per instruction of my client, do hereby solemnly affirm and declare that the contents of the accompanying **Application** are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed from this Hon'ble Court.




ADVOCATE